

# Jdg

## Chapter 15

### Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	וַיְהִי	מִיָּמִים	בֵּינֵי	קְצֵיר־	חֲשִׁים	וַיִּפְקֹד	שִׁמְשׁוֹן	אֶת־	אֲשֶׁתוֹ
	اور-ہوا	دنوں-کے-بعد	دنوں-میں	کٹائی-کے	گیہوں-کے	اور-ملنے-گیا	سیمسون	کو	اپنی-بیوی
	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H3117</a>		<a href="#">H2406</a>		<a href="#">H8123</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0802</a>
	بکری-کے-بچے-کے-ساتھ	بکریوں-کی	اور-کھا	جاؤں-گا-میں	پاس	اپنی-بیوی-کے	کمرے-میں	اور-نہیں	دیا-اُسے
	<a href="#">H1423</a>	<a href="#">H5795</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0802</a>	<a href="#">H2315</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H5414</a>

اَکְבִיָּהּ לְבֹא: اُس-کے-باپ-نے آنے  
[H0001](#) [H0935](#)

کے بیوی نے اُس کر پہنچ گھر کے سُسر گیا۔ ملنے سے بیوی اپنی کر لے ساتھ اپنے بچہ کا بکری سمسون تو لگی ہونے کٹائی کی گندم جب گئے۔ گزر دن کچھ کیا۔ انکار نے باپ لیکن کی۔ درخواست کی جانے میں کمرے

2	וַיֹּאמֶר	אָבִיָּהּ	אָמַר	אֲמַרְתִּי	כִּי־	שָׂנֵא	שָׂנֵאתָ	וַאֲהַבְנָה
	اور-کہا	اُس-کے-باپ-نے	کہنا	میں-نے-کہا	کہ	نفرت	نفرت-کرتا-ہے-اُس-سے	اور-دے-دیا-میں-نے-اُسے
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H0559</a>		<a href="#">H4130</a>	<a href="#">H8130</a>	<a href="#">H5414</a>
	تیرے-ساتھی-کو	کیا-نہیں	اُس-کی-بہن	چھوٹی	بہتر	اُس-سے	بو-جائے	مہربانی
	<a href="#">H4828</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H0269</a>		<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H4994</a>		<a href="#">H8478</a>

کرتے نفرت سخت سے اُس آپ اب کہ تھا گیا بو یقین مجھے میں اصل ہے۔ دی کرا سے بالے شہ کے آپ شادی کی بیٹی نے میں سکتا! ہو نہیں یہ کہا، نے اُس ہے۔ صورت خوب زیادہ وہ لیں۔ کر شادی سے بہن چھوٹی کی اُس نہیں۔ بات کوئی لیکن ہیں۔

3	וַיֹּאמֶר	לָהֶם	שִׁמְשׁוֹן	נְקִיתִי	הַפְעַם	מַפְלְשָׁתִים	כִּי־	עָשָׂה	אֲנִי	עָמָם
	اور-کہا	انہیں	سیمسون-نے	ہے-قصور-ہوں-میں	اس-بار	فلستیوں-سے	کیونکہ	کر-رہا-ہوں	میں	ان-کے-ساتھ
	<a href="#">H0559</a>		<a href="#">H8123</a>	<a href="#">H5352</a>	<a href="#">H6471</a>	<a href="#">H6430</a>			<a href="#">H0589</a>	
	برائی									

ہوں۔ نہیں پر حق میں کہ گا سکے کہہ نہیں کوئی اور گا، لوں بدلہ خوب سے فلستیوں میں دفعہ اس بولا، سمسون

4	וַיִּקַּד	שִׁמְשׁוֹן	וַיִּלְכֹּד	שְׁלֹשׁ־	מֵאֹת	שׁוּעָלִים	וַיִּקַּח	לְפָדִים	זָבָב	אֶל־	זָבָב
	اور-گیا	سیمسون	اور-پکڑے	تین	سو	لومڑیاں	اور-لیا	مشعلیں	اور-موڑا	سے	ڈم
	<a href="#">H3212</a>	<a href="#">H8123</a>	<a href="#">H3920</a>	<a href="#">H7969</a>	<a href="#">H3967</a>	<a href="#">H7776</a>	<a href="#">H3947</a>	<a href="#">H3940</a>	<a href="#">H6437</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H2180</a>
	اور-رکھا	مشعل	ایک	درمیان	دو	ڈموں-کے	بیج-میں				
	<a href="#">H3940</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H0996</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H2180</a>	<a href="#">H8432</a>					

دی لگا مشعل ساتھ کے ڈموں کی جوڑے ہر نے اُس کر باندھ کو ڈموں کی دو دو لیا۔ پکڑ کو لومڑیوں 300 نے اُس کر نکل سے وہاں

5	וַיִּבְעֶר- اور-جلایا	אֵשׁ آگ	בְּלִפְיָדַיִם مشعلوں-میں	וַיִּשְׂלַח اور-چھوڑا	בְּקִמּוֹת کھڑی-فصل-میں	פְּלִשְׁתִּים فلستیوں-کی	וַיִּבְעֶר اور-جلایا	מִנְדִישׁ ڈھیروں-سے	וַעֲד- اور-تک
		H0784	H3940	H7971	H7054	H6430			H5704

קָמָה کھڑی-فصل	וַעֲד- اور-تک	כָּרֵם انگور-کے-باغات	זֵית: زیتوں-کے
H7054	H5704	H3754	H2132

نہیں کاٹا تک اب جو بوئے بہسم سمیت اناج اُس پُلے پڑے میں کھیتوں دیا۔ بھگا میں کھیتوں کے اناج کے فلستیوں کو لومڑیوں کر جلا کو مشعلوں پھر اور گئے۔ بو تباہ بھی باغ کے زیتوں اور انگور تھا۔ گیا

6	וַיִּאמְרוּ اور-کہا-انہوں-نے	פְּלִשְׁתִּים فلستیوں-نے	מִי کس-نے	עָשָׂה کیا	זֹאת یہ	וַיִּאמְרוּ اور-کہا-انہوں-نے	שָׂמְשׁוֹן سیمسون-نے	חֲתָן داماد	הַתְּמָנִי تیمنی-کا	כִּי کیونکہ
	H0559	H6430	H4310		H2063	H0559	H8123	H2860	H8554	

לָקַח لے-لیا	אֶת- کو	אֲשֵׁר اُس-کی-بیوی	וַיִּתְּנָה اور-دے-دیا-اُسے	לְמִרְעָהּ اُس-کے-ساتھی-کو	וַיַּעַל اور-چڑھے-اُسے	פְּלִשְׁתִּים فلستی	וַיִּשְׂרְפוּ اور-جلا-دیا	אוֹתָהּ اُسے
H3947	H0853	H0802	H5414	H4828	H5927	H6430	H8313	H0853

וְאֶת- اور-کو	אָבִיהָ اُس-کے-باپ	בְּאֵשׁ: آگ-سے
H0853	H0001	H0784

کو بیوی کی اُس نے سُسر کے اُس میں تمنت کہ ہے یہ وجہ کہ اور ہے، کیا کچھ سب یہ نے سمسون کہ چلا پتا ہے۔ کام کا کس یہ کہ کیا دریافت نے فلستیوں دیا۔ جلا کر پکڑ سمیت بیٹی کی اُس کو سُسر کے سمسون اور گئے تمنت فلستی کر سن یہ ہے۔ دیا دے کو بالے شہ کے اُس کر چھین سے اُس

7	וַיִּאמְרוּ اور-کہا	לָהֶם انہیں	שָׂמְשׁוֹן سیمسون-نے	אִם- اگر	תַּעֲשׂוּן کرو-گے	כְּזֹאת ایسا	כִּי تو	אִם- جب-تک	נִקְמָתִי بدلہ-لوں-گا-میں	בְּכֶם تم-سے	וַאֲחֵר اور-بعد-میں
	H0559		H8123			H2063			H5358		

אֲחֵרָל:  
رُكُون-گا  
H2308

گا۔ رُکُون نہیں میں لیا نہ بدلہ پورا نے میں تک جب ہے! کیا کیا نے تم! یہ کہا، سے اُن نے سمسون تب

8	וַיִּדָּא اور-مارا	אוֹתָם انہیں	שׁוֹק پنڈلی	עַל- پر	יָרָד ران	מִכָּה ضرب	גְּדוּלָּה بڑی	וַיִּרָד اور-اُترا	וַיִּשָּׁב اور-بیٹھا	בְּסַעֲרָה دراڑ-میں	סִלְעַ چٹان	עֵיטָם: عیطام-کی
	H5221	H0853	H7785		H3409	H4347		H3381	H3427	H5585	H5553	H5862

5

لگا۔ رہنے میں غار کے چٹان کی عیطام کر اُتر سے جگہ اُس وہ پھر ہوئے۔ بلاک فلستی بے شمار کہ پڑا ٹوٹ پر اُن سے زور اتنے وہ

9	וַיַּעַל اور-چڑھے-اُسے	פְּלִשְׁתִּים فلستی	וַיִּחַגּוּ اور-ڈیرے-ڈالے	בִּיהוּדָה یہوداہ-میں	וַיִּנְטְשׁוּ اور-بھیلے	בְּלָחִי: لحی-میں
	H5927	H6430	H2583	H3063	H5203	H3896

ہوئے۔ زن خیمہ پاس کے شہر לחی وہ وہاں ہوئی۔ داخل میں علاقے قبائلی کے یہوداہ فوج فلستی میں جواب

10	וַיִּאמְרוּ اور-کہا-انہوں-نے	אִישׁ آدمیوں-نے	יְהוּדָה یہوداہ-کے	לָמָה کیوں	עָלִיתָם چڑھے-ہو-تم	עָלִינוּ ہم-پر	וַיִּאמְרוּ اور-کہا-انہوں-نے	לְאַסּוֹר باندھنے	אֶת- کو
	H0559	H0376	H3063	H4100	H5927		H0559	H0631	H0853

שָׂמְשׁוֹן سیمسون	עָלִינוּ آئے-ہیں-ہم	לַעֲשׂוֹת کرنے	לָו اُسے	כְּאִשָּׁר جیسا	עָשָׂה کیا	לָנוּ: ہمیں
H8123	H5927					

وہ ساتھ کے اُس تاکہ ہیں آئے پکڑنے کو سمسون [ ] ہم دیا، جواب نے فلسٹیوں ہیں؟ [ ] آئے لڑنے سے ہم آپ کہ ہے وجہ [ ] کیا پوچھا، نے باشندوں کے یہوداہ ہے۔ [ ] کیا ساتھ ہمارے نے اُس جو کریں کچھ

11	וַיִּרְדּוּ	שְׁלֹשֶׁת	אֲלָפִים	אִישׁ	מִיְהוּדָה	אֶל-	סְעִירָה	סִלְעַ	עֵיטָם	וַיֹּאמְרוּ
	اور-اُترے	تین	ہزار	آدمی	یہوداہ-سے	پاس	دراڑ-کے	چٹان	عیطام-کی	اور-کہا-اُنہوں-نے
	<a href="#">H3381</a>	<a href="#">H7969</a>	<a href="#">H0505</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H3063</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H5585</a>	<a href="#">H5553</a>	<a href="#">H5862</a>	<a href="#">H0559</a>
	לְשֹׁמְנוֹן	הָלֹא	יָדַעְתָּ	כִּי-	מִזְשָׁלִים	בְּנֹו	פְּלִשְׁתִּים	וּמַה-	זָאת	עֲשִׂיתָ
	سِمْسُون-کو	کیا-نہیں	جانتا-ہے-تُو	کہ	حکمران-ہیں	ہم-پر	فلسٹی	اور-کیا	یہ	کیا-ہے-تُو-نے
	<a href="#">H8123</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3045</a>	<a href="#">H4910</a>	<a href="#">H6430</a>	<a href="#">H4100</a>	<a href="#">H2063</a>			
	וַיֹּאמֶר	לָהֶם	כְּאִשְׁרָ	עָשׂו	לִי	כֵן	עֲשִׂיתִי	לָהֶם:		
	اور-کہا	انہیں	جیسا	کیا-اُنہوں-نے	میرے-ساتھ	ویسا	کیا-میں-نے	انہیں		
	<a href="#">H0559</a>									

حکومت پر ہم فلسٹی کہ ہے پتا تو کو آپ کیا؟ کیا ساتھ ہمارے نے آپ [ ] نہ کہا، سے سمسون اور آئے پاس کے غار کے پہاڑ عیطام مرد 3,000 کے یہوداہ تب تھا۔ [ ] کیا ساتھ میرے نے اُنہوں جو کیا کچھ وہ صرف ساتھ کے اُن نے [ ] میں دیا، جواب نے سمسون ہیں۔ [ ] کرتے

12	וַיֹּאמְרוּ	לֹא	לְאִסְרָךָ	יָרְדְנוּ	לְתַתָּךָ	בְּיַד-	פְּלִשְׁתִּים	וַיֹּאמֶר	לָהֶם
	اور-کہا-اُنہوں-نے	اُسے	باندھنے-تجھے	اُترے-ہیں-ہم	دینے-تجھے	ہاتھ-میں	فلسٹیوں-کے	اور-کہا	انہیں
	<a href="#">H0559</a>		<a href="#">H0631</a>	<a href="#">H3381</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H6430</a>	<a href="#">H0559</a>	
	שֹׁמְנוֹן	הַשְּׂבָעוּ	לִי	פֶן-	תִּפְגְּעוּן	כִּי	אֶתֶם:		
	سِمْسُون-نے	قسم-کھاؤ	مجھے	ورنہ	حملہ-کرو-گے	مجھ-پر	تم		
	<a href="#">H8123</a>	<a href="#">H7650</a>	<a href="#">H6435</a>	<a href="#">H6293</a>					

نہیں قتل مجھے خود آپ کہ کھائیں قسم لیکن ہے، [ ] ٹھیک کہا، نے سمسون ہیں۔ [ ] آئے کرنے حوالے کے فلسٹیوں کر باندھ کو آپ [ ] ہم بولے، مرد کے یہوداہ گے۔ [ ] کریں

13	وַיֹּאמְרוּ	לֹא	לְאִמְרָ	כִּי-	לֹא	נִאֲסַרְךָ	וּנְתַנוּךָ
	اور-کہا-اُنہوں-نے	اُسے	کہتے-ہوئے	نہیں	نہیں	باندھیں-گے-ہم-تجھے	اور-دیں-گے-ہم-تجھے
	<a href="#">H0559</a>		<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H0631</a>	<a href="#">H0631</a>	<a href="#">H5414</a>
	בְּיָדֶם	וְהָמַת	לֹא	נְמִיתָךָ	וַיֹּאסְרֶהוּ	בְּשָׁנִים	עֲבַתִּים
	اُن-کے-ہاتھ-میں	اور-مارنا	نہیں	ماریں-گے-ہم-تجھے	اور-باندھا-اُنہوں-نے-اُسے	دو	رسیوں-سے
	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H4191</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H4191</a>	<a href="#">H0631</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H5688</a>
	וַיַּעֲלֶהוּ	מִן-	הַסִּלְעַ:				
	اور-لے-گئے-اُسے	سے	چٹان				
	<a href="#">H5927</a>		<a href="#">H5553</a>				

سے رسوں تازہ تازہ دو اُسے وہ چنانچہ گے۔ [ ] دیں کر حوالے کے اُن کر باندھ صرف کو آپ بلکہ گے کریں نہیں قتل برگز کو آپ [ ] ہم دیا، جواب نے اُنہوں گئے۔ لے پاس کے فلسٹیوں کر باندھ

14	הוּא-	בָּא	עַד-	לְחִי	וּפְלִשְׁתִּים	הֲרִיעוּ	לְקַרְאָתוֹ	וַתִּצְלַח	עָלָיו	רוּחַ	יְהוָה
	وہ	آیا	تک	لحی	اور-فلسٹی	للكارے	اُس-کے-استقبال-کو	اور-آیا	اُس-پر	روح	یہوواہ-کی
	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H5704</a>	<a href="#">H3896</a>	<a href="#">H6430</a>	<a href="#">H7321</a>	<a href="#">H7125</a>	<a href="#">H7307</a>	<a href="#">H7307</a>	<a href="#">H3068</a>	
	וַתְּהַיֵּינָהּ	הָעֵבֶתִים	אֲשֶׁר	עַל-	זְרוּעוֹתָיו	עַל-	כַּפְשָׁתִים	אֲשֶׁר	בְּעָרָו	כְּאִשׁ	
	اور-ہو-گئیں	رسیاں	جو	پر	اُس-کے-بازوؤں	پر	جیسے-سن-کے-دھاگے	جو	جلتے-ہیں	آگ-میں	
	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H5688</a>			<a href="#">H2220</a>		<a href="#">H6593</a>		<a href="#">H0784</a>		
	וַיִּמְסוּ	אֶסְרוּ	מֵעַל	יָדָיו:							
	اور-پگھل-گئے	اُس-کے-بندھن	اوپر-سے	اُس-کے-ہاتھوں							
	<a href="#">H4549</a>	<a href="#">H0612</a>		<a href="#">H3027</a>							

سے بازوؤں کے اُس ہوا۔ نازل پر اُس سے زور بڑے روح کا رب تب آئے۔ دوڑے طرف کی اُس ہوئے لگاتے نعرے فلسٹی کہ تھا دُور سے لحي ابھی سمسون گئے۔ گر سے ہاتھوں کر پگھل وہ اور گئے، ہو کمزور جیسے دھاگے ہوئے جلے کے سن رسے ہوئے بندھے

15	נימצא	לחי	חמור	טריה	וישלה	ידו	ויקה	ניד	בה	אלף	איש:
	اور-پایا	جیڑے-کی	گدھے-کی	تازی	اور-بڑھایا	اپنا-ہاتھ	اور-لے-لیا-اسے	اور-مارا	اُس-سے	بزار	آدمی
	<a href="#">H4672</a>	<a href="#">H3895</a>	<a href="#">H2543</a>	<a href="#">H2961</a>	<a href="#">H7971</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H3947</a>	<a href="#">H5221</a>	<a href="#">H0505</a>	<a href="#">H0376</a>	

ڈالامار کو افراد بزار ذریعے کے اُس نے اُس کر پکڑ جیڑا تازہ کا گدھے سے کہیں

16	ניאמר	שמרון	בלחי	חמור						
	اور-کھا	سمسون-نے	جیڑے-کی-بڑی-سے	گدھے-کی	گدھے-کی	گدھے-کی	ڈھیروں-کے-ڈھیر	جیڑے-کی-بڑی-سے	گدھے-کی	گدھے-کی
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H8123</a>	<a href="#">H3895</a>	<a href="#">H2543</a>	<a href="#">H2565</a>	<a href="#">H2565</a>	<a href="#">H2565</a>	<a href="#">H3895</a>	<a href="#">H2543</a>	<a href="#">H2543</a>

הכיתי  
 مارا-میں-نے  
 بزار  
 آدمی  
[H0521](#)  
[H0505](#)  
[H0376](#)

بے! ڈالا مار کو مردوں بزار نے میں سے جیڑے کے گدھے ہیں! لگائے ڈھیر کے اُن نے میں سے جیڑے کے گدھے لگایا، نعرہ نے اُس وقت اُس

17	ויחי	ככלתו	לדר	וישלה	חלחי	מידו	ויקרא	למקום	ההוא
	اور-بوا	جب-ختم-کیا-اُس-نے	بولنا	اور-پھینک-دیا	جیڑا	اپنے-ہاتھ-سے	اور-بلایا	جگہ	اُس
	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H3615</a>	<a href="#">H1696</a>	<a href="#">H7993</a>	<a href="#">H3895</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H7121</a>	<a href="#">H4725</a>	<a href="#">H1931</a>

לחי:רמת  
 رامات-لחי  
[H7437](#)

گیا۔ پڑ پھاڑی جیڑا یعنی لحي رامت نام کا جگہ اُس دیا۔ پھینک جیڑا یہ کا گدھے نے اُس بعد کے اِس

18	ויצמא	מאר	ויקרא	אל	יהוה	ויאמר	אתה	נתת	ביר	עברך	את
	اور-پیاسا-بوا	بہت	اور-پکارا	پاس	یہوواہ-کے	اور-کہا	ٹو-نے	دیا	ہاتھ-سے	اپنے-ہندے-کے	کو
	<a href="#">H6770</a>	<a href="#">H3966</a>	<a href="#">H7121</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H5650</a>	<a href="#">H0853</a>

	התשועה	הגדלה	הזאת	ועתה	אמות	בצמא	ונפלתו	ביר	הערלים:
	نجات	بڑی	یہ	اور-اب	مروں-گا-میں	پیاس-سے	اور-گروں-گا-میں	ہاتھ-میں	نامختوں-کے
	<a href="#">H8668</a>	<a href="#">H2063</a>	<a href="#">H6258</a>	<a href="#">H4191</a>	<a href="#">H6772</a>	<a href="#">H5307</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H6189</a>	

سے پیاس میں اب لیکن ہے۔ دلائی نجات بڑی یہ کو اسرائیل سے ہاتھ کے خادم اپنے نے ہی [ٹو کہا، کر پکار کو رب نے اُس لگی۔ پیاس بڑی وہاں کو سمسون گا۔] جاؤں آ میں ہاتھ کے دشمن نامختوں کر مر

19	ויבקע	אלהים	את	המכתש	אשר	בלחי	ויצאו	ממנו	מים	וישת	ותשב
	اور-چیرا	خدا-نے	کو	گڑھا	جو	لحي-میں	اور-نکلا	اُس-میں-سے	پانی	اور-پیا	اور-لوٹی
	<a href="#">H1234</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H4388</a>	<a href="#">H3895</a>	<a href="#">H3318</a>	<a href="#">H4325</a>	<a href="#">H8354</a>	<a href="#">H7725</a>		

	רוח	ויחי	על	וכן	קרא	שמה	הקורא	אשר	בלחי	עד	היום
	اُس-کی-روح	اور-جیا	پر	اسی-لیے	بلایا	اُس-کا-نام	عین-بقورے	جو	لحي-میں	تک	دن
	<a href="#">H7307</a>	<a href="#">H2421</a>	<a href="#">H7121</a>	<a href="#">H8034</a>	<a href="#">H5875</a>	<a href="#">H3896</a>	<a href="#">H5704</a>	<a href="#">H3117</a>			

הזה:  
 اس  
[H2088](#)

بقورے عین نام کا چشمے اُس یوں گیا۔ ہو دم تازہ دوبارہ کر پی پانی کا اُس سمسون نکلا۔ پھوٹ پانی سے گڑھے اور چھیدا، کو زمین میں لحي نے اللہ تب ہے۔ موجود میں لحي وہ بھی آج گیا۔ پڑ چشمہ کا والے پکارنے یعنی

20	וישפט	את	ישראל	בימי	פלשתים	עשרים	שנה:	פ
	اور-عدالت-کی	کو	اسرائیل	دنوں-میں	فلستیوں-کے	بیس	سال	-
	<a href="#">H8199</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H6430</a>	<a href="#">H6242</a>	<a href="#">H8141</a>	

رہا۔ قاضی کا اسرائیل تک سال 20 سمسون میں دور کے فلسطیوں